



## ملتان سلطانز نے اسپنرز کا جال بچھا کر ہوم گراؤنڈ پر مسلسل دوسری کامیابی حاصل کر لی

- کراچی کنگز کو 52 رنز سے شکست
- عمران طاہر اور شاہد آفریدی کے مجموعی طور پر 5 شکار
- معین علی اور شان مسعود کی نصف سنچریاں

ملتان، 28 فروری 2020ء:

ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو 52 رنز سے شکست دے کر ہوم گراؤنڈ پر مسلسل دوسری کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں کراچی کنگز کی ٹیم 187 رنز کے تعاقب میں 134 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔

میزبان ٹیم کے دو اسپنرز عمران طاہر اور شاہد آفریدی نے عمدہ باؤلنگ کرتے ہوئے کراچی کنگز کی آدھی ٹیم کو پویلین کی راہ دکھائی۔

تفصیلات کے مطابق مہمان ٹیم کے کپتان عماد وسیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ 31 رنز پر پہلی وکٹ گنوانے کے بعد ملتان سلطانز کے اوپنر معین علی اور کپتان شان مسعود نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 71 رنز کی شراکت نے ملتان سلطانز کو اسکور بورڈ پر بڑا ہدف سجانے میں مدد دی۔

معین علی 65 اور شان مسعود 61 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دونوں کھلاڑیوں نے مجموعی طور پر میچ میں 11 چوکے اور 5 چھکے جڑے۔

ان کے علاوہ ملتان سلطانز کا کوئی کھلاڑی بھی لمبی اننگز کھیلنے میں ناکام رہا۔ میزبان ٹیم نے مقررہ بیس اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 186 رنز بنائے۔

کراچی کنگز کے محمد عامر اور کرس جارٹن نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔

مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی مضبوط بیٹنگ لائن اپ دباؤ کا شکار نظر آئی اور کوئی بھی بلے باز لمبی اننگز کھیلنے میں ناکام رہا۔ ملتان سلطانز کے اسپنرز عمران طاہر اور شاہد آفریدی کی گھومتی گیندوں نے مہمان ٹیم کے بلے بازوں کو شدید مشکلات کا شکار کیا۔

کراچی کنگز کے ابتدائی 6 کھلاڑی محض 87 کے مجموعی اسکور پر آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ گئے، جس کے بعد عمید آصف اور چیٹوک والٹن نے ٹیم کو سہارا دینے کی کوشش کی مگر وہ بھی مہمان ٹیم کو مشکلات کے بہنور سے نہ نکال سکے۔

کراچی کنگز کی جانب سے ایلکس ہیلز 29 رنز بنا کر سب سے نمایاں بلے باز رہے۔ عمید آصف 20 اور چیٹوک والٹن 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

کراچی کنگز کی پوری ٹیم 17 اوورز میں 134 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔

عمران طاہر نے 28 رنز کے عوض 3 اور شاہد آفریدی نے 18 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔ سپیل تنویر نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

میچ میں شاندار بلے بازی کرنے پر معین علی کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

Partners



www.psl-t20.com  
@thePSLT20  
@thePSL  
PakistanSuperLeague  
@thePSL

PCB Headquarters  
Gaddafi Stadium,  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4

